



شیڈول آف چارجز

جنوری تا جون 2020

فان کرنسی اکاؤنٹس اور ریٹینسز

- آؤٹ ورڈ _____ 1
- ان ورڈ _____ 1
- کلکیشن اور کلیئرنگ _____ 1
- متفرق چارجز _____ 1

ڈومیسٹک بینکنگ

- ریٹینسز _____ 2
- آن لائن کلیئرنگ اور کلکیشن ٹرانزیکشنز _____ 3
- متفرق چارجز _____ 3

ویزاڈیٹ کارڈ

- کیش نکالنا _____ 4
- بیلنس کی معلومات _____ 4
- پوائنٹ آف سیل (POS) ٹرانزیکشنز _____ 4
- متفرق چارجز _____ 4

لاکرز

- پروڈکٹ کی بنیاد پر چارجز اور چھوٹ _____ 5
- ایمان ٹرم ڈپازٹ کی قبل از وقت انکیشمنٹ _____ 5

ٹریڈ سروسز

- درآمدات _____ 5
- برآمدات _____ 7
- ان لینڈ بلز _____ 8
- گارنٹیز _____ 8
- فنانس/ایڈوانسز _____ 8
- ایمان کیش پیمنٹس _____ 9

اسٹاف کے لیے اسٹنڈی (مستقل اور کنٹریکٹ)

- نوٹس _____ 9

فان کرنسی اکاؤنٹس اور ریٹینسز

آؤٹ ورڈ

فان کرنسی اکاؤنٹ کے ذریعے فان ریٹینسز	20 امریکی ڈالر بشمول سوئفٹ یا دیگر فان کرنسیز میں مساوی رقم
فان کرنسی ڈیمانڈ ڈرافٹ (FDD) کا اجراء	20 امریکی ڈالر یا دیگر فان کرنسیز میں مساوی رقم
فان کرنسی اکاؤنٹ میں کیش جمع کروانے کے ایک ہفتے کے اندر ریٹینسز	ریٹینسز چارج کے علاوہ 0.5% اضافی چارجز
ریٹینسز/فان کرنسی ڈیمانڈ ڈرافٹ کی منسوخی کے چارجز	10 امریکی ڈالر جمع پونجی/سوئفٹ (اگر ہو تو)
ڈپلیکیٹ فان کرنسی ڈیمانڈ ڈرافٹ (FDD) کا اجراء	10 امریکی ڈالر یا دیگر فان کرنسیز میں مساوی رقم

ان ورڈ

ہوم ریٹینسز (بشمول PRI)	اگر حاصل ہمارے بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جاتے ہیں تو بلا معاوضہ؛ بصورت دیگر PO مع کوریئر چارجز لاگو ہوں گے
-------------------------	--

کلکیشن اور کلیئرنگ

کلکیشن کے لیے کلین آؤٹ ورڈ بلز (OBC) جمع کروانا	0.1% کم از کم 5 امریکی ڈالر، زیادہ سے زیادہ 25 امریکی ڈالر یا دیگر فان کرنسی میں مساوی رقم
کلکیشن کے لیے ان ورڈ بلز (IBC)	5 امریکی ڈالر یا دیگر فان کرنسی میں مساوی رقم بشمول سوئفٹ
امریکی ڈالر میں کوکل آؤٹ ورڈ کلیئرنگ مقامی ڈالر کلیئرنگ میں چیک ریٹرن کے چارجز:	5 امریکی ڈالر
(a) ان ورڈ کلیئرنگ	(a) 10 امریکی ڈالر
(b) آؤٹ ورڈ کلیئرنگ	(b) 5 امریکی ڈالر
چیک کے لیے اسٹاپ پیمنٹ	10 امریکی ڈالر

متفرق چارجز

کارکردگی، بیلنس اور مینٹیننس وغیرہ کے حوالے سے سرٹیفکیٹ کا اجراء	200 روپے فی آنیٹم
چیک بک کا اجراء	10 روپے فی چیک فان کرنسی میں مساوی رقم
ڈپلیکیٹ اسٹینڈی آف اکاؤنٹ	35 روپے فی آنیٹم

فارن کرنسی اکاؤنٹس میں کیش ہینڈلنگ چارجز	رقم کا 0.1%، زیادہ سے زیادہ 100 امریکی ڈالر یا دیگر
فارن کرنسی اکاؤنٹس میں مستقل ہدایت کے چارجز	فارن کرنسیز میں مساوی رقم - پہلے ڈپازٹ پر چھوٹ 5 امریکی ڈالر فی ٹرانزیکشن یا دیگر فارن کرنسیز میں مساوی رقم
فارن سوئفٹ (SWIFT) چارجز	فل: 2,000 روپے شارٹ: 1,500 روپے
خط و کتابت کے چارجز (اگر ہوں)	بمطابق اصل لاگت وصول کیے جائیں گے
پوسٹنگ اور کوریئر (اگر ہوں)	بمطابق اصل لاگت وصول کیے جائیں گے

ڈومیسٹک بینکنگ

ریٹینسز

پے آرڈر / CDR کا اجراء:	
(a) ایمان کرنٹ اور ایمان آسان کرنٹ اکاؤنٹ	(a) 10 روپے
(b) ایمان سیونگز	(b) 100 روپے
(c) ایمان انہاسٹ سیونگز	(c) 150 روپے
(d) ایمان پریسٹیم سیونگز	(d) 200 روپے
(e) ایمان ایڈیٹل سیونگز	(e) 300 روپے
تعلیمی ادارے، HEC/ بورڈ وغیرہ کو طلباء کی فیس/ واجبات کی ادائیگی کے لیے پے آرڈر	فیس اور واجبات کا 0.50% یا 25 روپے فی انسٹرومنٹ، جو بھی کم ہو
کورپوریٹ ٹریڈینٹ بینک کی برانچوں کے لیے ڈرا کیے گئے ڈیمانڈ ڈرافٹس کا اجراء	
(a) 100,000 روپے تک	(a) 0.2%، کم از کم 200 روپے
(b) 100,000 روپے سے زائد	(b) 0.1%، کم از کم 500 روپے
PO/DD/CDR کی اسٹاپ ہینڈ	500 روپے بشمول کوریئر چارجز (اگر ہوں)
PO/DD/CDR کی منسوخی	500 روپے
RTGS	500 روپے (فلیٹ)

آن لائن، کلیئرنگ اور ٹرانزیکشنز

شہر کے اندر کیش یا چیک کی آن لائن ڈپازٹ اور وصولی	بلا معاوضہ
انٹرنیٹ آن لائن کیش/چیک:	
(a) ڈپازٹ	کوئی چارجز نہیں
(b) وصولی	کوئی چارجز نہیں
اسی روز کلیئرنگ کے چارجز	500 روپے فی ہدایت
غیر ادا شدہ چیک کی واپسی:	
(a) ان ورڈ کلیئرنگ	(a) 500 روپے
(b) آؤٹ ورڈ کلیئرنگ	(b) بلا معاوضہ
انٹرنیٹ آؤٹ ورڈ کلیئرنگ	150 روپے
ٹرانزیکشن کے لیے آؤٹ ورڈ بلز	200 روپے مع کوریئر چارجز
(جہاں NIFT دستیاب نہیں)	

متفرق چارجز

چیک بک کا اجراء	10 روپے فی چیک
چیکس کی اسٹاپ ہینڈ	500 روپے فی ہدایت
مستقل ہدایت کے چارجز	200 روپے فی ہدایت
اکاؤنٹ بند کرنے کے چارجز	500 روپے
بیلنس/ اکاؤنٹ مینٹیننس کے سرٹیفکیٹ کا اجراء	آسان، کرنٹ اور ریگولر سیونگز اکاؤنٹس متعلق ہیں
وڈ ہولڈنگ ٹیکس سرٹیفکیٹ کا اجراء	200 روپے فی سرٹیفکیٹ
دیگر تمام سرٹیفکیٹس جن کا کہیں اور ذکر نہ ہو	200 روپے فی سرٹیفکیٹ
ہولڈنگ ٹیکس سروس	2,000 روپے سالانہ فیکٹی (جنوری تا دسمبر)
پرانے ریکارڈ کا دوبارہ حصول:	
(a) ایک سال کے اندر	(a) 250 روپے
(b) ایک سال سے زائد	(b) 500 روپے
ایس ایم ایس الرٹس سروس	
(a) بیسک	(a) بلا معاوضہ
(b) تمام ٹرانزیکشنز	(b) 100 روپے ماہانہ (فلیٹ)
عارضی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ کے اجراء کے چارجز	35 روپے
یاد دہانی کے خطوط کے سروس چارجز	100 روپے

ویزا ڈیبٹ کارڈ

ویزا ڈیبٹ کارڈ کے سالانہ چارجز	1300 روپے سالانہ
ویزا ڈیبٹ کارڈ کی تبدیلی کے چارجز	650 روپے

کیش نکالنا

اپنے بینک کے ATM سے	بلا معاوضہ
کسی دوسرے بینک کے ATM سے	18.75 روپے
انٹرنیشنل ATM سے	500 روپے یا 4% جو بھی زیادہ ہو

بیلنس کی معلومات

اپنے بینک اور 1 لنک ATM سے	بلا معاوضہ
دوسرے بینک کے ATM سے (MNET نیٹ ورک)	5 روپے
انٹرنیشنل ATM سے	200 روپے
مٹی انشیمینٹ (اپنے بینک کے ATM سے)	بلا معاوضہ

پوائنٹ آف سیل (POS) ٹرانزیکشنز

POS ٹرانزیکشنز (پاکستان میں)	بلا معاوضہ
POS چارجز (انٹرنیشنل)	500 روپے یا 4% جو بھی زیادہ ہو

متفرق چارجز

IBFT چارجز	0.1% یا 50 روپے فی ٹرانزیکشن، جو بھی زیادہ ہو
دستاویزات کے دوبارہ حصول کی فیس:	
(a) مقامی	200 روپے فی دستاویز
(b) بین الاقوامی	1,000 روپے فی دستاویز
پولیٹری بلز کی ادائیگی	کوئی نہیں

لاکرز

سیف ڈپازٹ لاکرز کے لیے چارجز

اسمال	3,000 روپے سالانہ
میڈیم	6,000 روپے سالانہ
لارج	9,000 روپے سالانہ
ایکسٹرا لارج	12,000 روپے سالانہ
لاکر کے اجراء کے لیے لٹن	پہلے سال کے کرایہ کے چارجز میں اضافے کے ساتھ، لیکن ایک سال کے لیے مارک کیا جائے گا (لاکرساز کے مطابق)
فیس میں تاخیر	نا قابل اطلاق
چابی کے چارجز (قابل واپسی)	نئے لاکر کے اجراء کے وقت کی ڈپازٹ چارج کیا جائے گا اور لاکر سے دستبرداری کے وقت قابل واپسی ہوگا۔

اسمال	3,000 روپے
میڈیم	3,500 روپے
لارج	4,000 روپے
ایکسٹرا لارج	5,000 روپے
لاکر بریکنگ چارجز	3,000 روپے فی لاکر (بینک کے لیے)
	معدیہ سروس فریٹین کو ادا کیے گئے اصل اخراجات

پروڈکٹ کی بنیاد پر چارجز اور چھوٹ

ایمان پرییمیم سیونگز اور ایپیل سیونگ	دو بلا معاوضہ ڈیبٹ ٹرانزیکشنز روزانہ، بقیہ ٹرانزیکشنز بحساب 5 روپے فی ٹرانزیکشن وصولی
--------------------------------------	--

ایمان ٹرم ڈپازٹ کی قبل از وقت انکیشمنٹ

قبل از وقت انکیشمنٹ کی صورت میں اکاؤنٹ ہولڈر آخری تکمیل شدہ مدت کی بنیاد پر ان مکمل ایام کی شرح منافع کے تحت منافع حاصل کرے گا، جن میں فنڈز بینک کے پاس موجود رہے۔ تاہم یہ کم از کم ایک ماہ کی مدت کے لیے سرمایہ کاری سے مشروط ہے۔ ایک ماہ سے کم عرصے میں انکیشمنٹ کی صورت میں کوئی منافع قابل ادا نہ ہوگا، صرف اصل زر واپس کر دیا جائے گا۔

ٹریڈر سروسز *

درآمدات (لیٹر آف کریڈٹ/پیشگی ادائیگی/معاہدہ/وصولی/اکاؤنٹ کھولنا)

فلیٹ/کیکسٹ پیشگی قابل ادا

LC اوپننگ کمیشن	کم از کم 1,000 روپے یا
(مقامی اور فارن کرنسی اکاؤنٹ)	
LC ٹرانسمی کمیشن	5 ملین روپے تک
(مقامی اور فارن کرنسی اکاؤنٹ)	5 ملین تا 50 ملین روپے
امپورٹ بلز کی ریٹائرمنٹ بشمول LC کمیشن	50 ملین تا 100 ملین روپے
(مقامی اور فارن کرنسی اکاؤنٹ)	100 ملین روپے سے زائد
LC کی منسوخی	1,000 روپے فی ٹرانزیکشن (فلیٹ)
(مقامی اور فارن کرنسی اکاؤنٹ)	روپے کی قدر کا 0.10%، کم از کم 1,200 روپے
کنسائنمنٹ کی بنیاد پر درآمدات	1,000 روپے (فلیٹ)
(مقامی اور فارن کرنسی اکاؤنٹ)	(a) معاہدے کا رجسٹریشن کمیشن
	2,500 روپے (فلیٹ)

برآمدات (لیٹر آف کریڈٹ/ وصولی/ پیٹنگی ادائیگی)

فلیٹ/ یکمشت، پیٹنگی قابل ادا

LC پر مشورے/ تراہیم	(a) مشورے۔ 1,500 روپے
(مقامی اور فارن کرنسی اکاؤنٹ)	(b) تراہیم۔ 1,000 روپے
ایکسپورٹ LC ٹرانسفر/ ادائیگی	(a) ایکسپورٹ LC کی ٹرانسفر۔ 1,500 روپے فی ٹرانسفر مع لاگو کیونٹیشن چارجز
(مقامی اور فارن کرنسی اکاؤنٹ)	(b) نان ریزیدنٹ روپی اکاؤنٹ سے دوسرے بینکوں کو ادائیگی۔ کم از کم 1,000 روپے
محدود LC (مقامی اور فارن کرنسی اکاؤنٹ)	اگر محدود LC کے تحت دستاویز دیگر مقامی بینک کو گفٹ وشنید کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ 1,000 روپے
دستاویزی برآمدی وصولی (LC کے ہمراہ یا بغیر)	(a) دستاویزی وصولی۔ 1,000 روپے فی وصولی
	(b) ڈیوٹی ڈرا بینک گھڑکی پنڈلنگ۔ 0.25%، کم از کم 500 روپے
	(c) برآمدی محاصل پر تاج لے کا کمیشن۔ 0.15%
ان لینڈ LC کے تحت غیر ادا شدہ دستاویزات کی واپسی	500 روپے
NOC کا اجراء/ دستاویزات کا تبادلہ	1,000 روپے
EDS	100 روپے فی ٹرانزیکشن
سبسڈی کی درخواستوں کی پنڈلنگ	0.25%، کم از کم 500 روپے فی درخواست
کریڈٹ رپورٹ چارجز	اصل لاگت مع 1,000 روپے پنڈلنگ چارجز
R&D کسٹمر کی پنڈلنگ	1,500 روپے فی کس
LC کے تصدیقی چارجز	1,500 روپے (فلیٹ)
پیٹنگی ادائیگی کے عوض EPRC کے اجراء کے سروس چارجز	500 روپے (فلیٹ)
دوسرے بینک کو کمیشن کے تحت پیش کیے گئے برآمدی بل کی منتقلی	1,000 روپے مع اصل کیونٹیشن چارجز
برآمدی دستاویزات کی پنڈلنگ جن کے عوض پیٹنگی رقم وصول کی گئی	1,000 روپے (فلیٹ)
LC کے تحت محاصل کی تقریر	500 روپے (فلیٹ)، واحد تقریری کے لیے
کلیرنگ کمیشن	100 روپے (فلیٹ)
کمیشن کی بنیاد پر بھیجی گئی دستاویزات کے عوض سروس چارجز	10 پیسے فی 100 روپے یا (1 روپیہ فی ہزار) کم از کم 200 روپے (فلیٹ)، برطانیہ SBP کے قواعد یا وقتاً فوقتاً نظر ثانی شدہ رٹس
جب ہیمنٹ کو/ پیٹنگی ادائیگی بینک کے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں پہلے سے حاصل کر لی گئی ہو	

(b) معاہدے کا ترمیمی کمیشن	1,500 روپے فی ترمیم
(c) معاہدے کے عوض دستاویز کی وصولی،	1,500 روپے فی دستاویز
(d) ریٹائرمنٹ کمیشن بحساب روپے کی قدر کا	0.10%، کم از کم 2,000 روپے
	0.10%، کم از کم 2,500 روپے
LC معاہدے کے بغیر فارن کرنسی DD/TT کے عوض	اصل لاگت مع 2,000 روپے
درآمدی دستاویزات کی پنڈلنگ	پنڈلنگ چارجز
کریڈٹ رپورٹ	USANCE بلز کی صورت میں بینک 0.2% ماہانہ
درآمدی بل کے تحت ڈرا کیے گئے USANCE بلز	USANCE چارجز پیپورٹی ڈیٹ کے بعد LC کی ویڈیو سے ڈرا کیے گئے بلز پر وصول کر سکتا ہے۔ اگر
(مقامی اور فارن کرنسی اکاؤنٹ)	USANCE لیڈر آف کریڈٹ کی مدت کے لیے کورڈ ہے اور اس کے لیے کمیشن ادا کیا جا چکا ہے تو 0.20% کی شرح تک اضافی کمیشن وصول نہیں کیا جائے گا
	300 روپے (فلیٹ)
کمیشن/معاہدے کے تحت غیر ادا شدہ درآمدی بلز کی واپسی (مقامی اور فارن کرنسی اکاؤنٹ)	100 امریکی ڈالرز یا مساوی
اعتراضات کی فیس	مع ٹیلیکس/سولٹ چارجز
	LC کی رقم کے ایک ملین تک:
دوسرے بینک کو درآمد کنندگان کی درخواست پر LC کے تحت فارن ایچ بیج کی بنگ کے لیے سرٹیفکیٹ کا اجراء	800 روپے (فلیٹ) (فی درخواست)
	LC کی رقم کے ایک ملین سے زائد:
	1,000 روپے (فلیٹ) (فی درخواست)

نوٹس:

- انتظامیہ اپنی صوابدید پر کسٹمرز کو رعایتی نرخ پیش کر سکتی ہے۔
- بینک اور کسٹمر کے مابین معاہدے کی صورت میں کسٹمر کو پیش کیے گئے چارجز مختلف ہو سکتے ہیں۔

IERF ایپلی کیشن کی ہینڈلنگ	250 روپے (فلیٹ)
برآمدات کی کارکردگی کی تصدیق - EE فارم	500 روپے فی کیس
ERS پارٹ 1 کے تحت تبادلے کے کیسز کی ہینڈلنگ	500 روپے فی کیس

ان لینڈ بلز

دستاویزی بلز (LC کے ہمراہ یا بغیر) پاکستان میں	(a) سائنٹ بل (گفت و شنید) کمیشن 0.30% (فلیٹ)، ہربل کے لیے کم از کم 500 روپے
	(b) USANCE بل (گفت و شنید) کمیشن 0.30% (فلیٹ)، ہربل کے لیے کم از کم 500 روپے
	(c) دستاویزی کمیشن (ان لینڈ) کمیشن 0.30% کم از کم 1,500 روپے حاصل کے اجراء پر وصول کیا جائے گا

گارنٹیز

گارنٹیز	(a) گارنٹی کا اجراء 0.5% فی سہ ماہی یا اس کا حصہ کم از کم 1,000 روپے سالانہ یا اس کا حصہ (یکمشت رقم ایڈوانس میں قابل وصول)
	(b) 800 روپے فی ترمیم بشمول رقم میں اضافہ یا مدت میں توسیع
	(c) گارنٹی کے دوبارہ اجراء کے لیے 800 روپے
بیک ٹو بیک گارنٹی کا اجراء	گارنٹی کا اجراء، 0.45% فی سہ ماہی یا حصہ کم از کم 250 امریکی ڈالر سالانہ یا حصہ بشمول خط و کتابت کے چارجز یا خط و کتابت کے بینک کے ساتھ معاہدے کے تحت بمطابق اصل وصول کی جائے
قانونی فیس	1,000 روپے (فلیٹ) بشمول اصل اخراجات جو کہ بینک کی جانب سے عائد کیے گئے ہوں
ایزوویز بل اور شپنگ گارنٹیز کی تصدیق - بل آف لیڈنگ کے عوض شپنگ کمپنیوں کو گارنٹیز جاری کی جائیں گی	2,000 روپے (فلیٹ)

* بینک اور کسٹمر کے مابین معاہدے کی صورت میں کسٹمر کو پیش کیے گئے چارجز مختلف ہو سکتے ہیں۔

فنانس/ایڈوانسز

پروسیڈنگ فیس برائے فریش کریڈٹ پروپوزل/تجدید/انہاسمنٹ کے لیے وسط مدتی جائزے	مجموعی سہولیات کا 0.10%/15,000 روپے (جو بھی زیادہ ہو) یا معاہدے کے مطابق، (اپ فرنٹ وصول کیے جائیں گے)
--	---

* بینک اور کسٹمر کے مابین معاہدے کی صورت میں کسٹمر کو پیش کیے گئے چارجز مختلف ہو سکتے ہیں۔

نوٹ: موجودہ سہولتوں/کریڈٹ کی سہولت کے سالانہ انٹرنل جائزے کی صورت میں جن کی مدت ایک سال سے زائد ہو، فیس لاگو نہیں ہوگی۔

ایمان کیش منجمنٹ

کسٹمر سے معاہدے کے مطابق چارجز میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔

اشاف کے لیے اسٹیٹ

چیک بک کا اجراء	بلا معاوضہ
پے آرڈر/ڈیمانڈ ڈرافٹ کا اجراء	بلا معاوضہ
انٹرنیٹ اور آن لائن ٹرانزیکشنز	بلا معاوضہ
لوکل کمیشن چارج	بلا معاوضہ
چیک ریٹرن چارج	بلا معاوضہ
چیکس کی اسٹاپ پیمنٹ	بلا معاوضہ
سرٹیفکیٹس کا اجراء	بلا معاوضہ
PO/DD کی اسٹاپ پیمنٹ اور تفتیش	بلا معاوضہ
ویزا ڈیٹ کا کارڈ کے اجراء اور سالانہ فیس کے چارجز	بلا معاوضہ
یومیہ 2 سے زائد ڈیٹ ٹرانزیکشنز پر پینلیم/اسپیشل سیونگ چارجز	بلا معاوضہ
SMS الرٹس سروس	بلا معاوضہ
IBFT	بلا معاوضہ
لا کر کے کرایہ پر تین	بلا معاوضہ
چاپی کے لیے ڈپازٹ	بلا معاوضہ
لا کر کا کرایہ	اصل چارجز کا 50% بلا معاوضہ

یہ چھوٹ صرف مستقل اور کنٹریکٹل اشاف دونوں کے سلیبری اکاؤنٹ کے لیے قابل اطلاق ہے۔

نوٹس:

- مندرجہ بالا رٹس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے کسٹمر کے اکاؤنٹ پر وضع فوٹو والا گھونے والے وڈ ہولڈنگ ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، اسٹیمپ ڈیوٹی، صوبائی یا وفاقی ٹیکس، یا کوئی بھی دیگر اعلان کردہ ٹیکس وصول کیا جائے گا۔
- رٹس ہڈ کی منظوری سے مختلف کیسز کی بنیاد پر یا کسٹمر کے معاملات کے مطابق چارجز مختلف ہو سکتے ہیں اور انھیں کم یا ختم بھی کیا جاسکتا ہے۔
- جو چارجز اس شیڈول آف چارجز میں کو رٹس کیے گئے، کسٹمر سے معاہدے کے تحت مختلف کیسز کی بنیاد پر الگ سے وصول کیے جائیں گے۔
- ایمان کرنٹ اور ریگولر سیونگز اکاؤنٹ، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے صراحت کردہ بنیادی بینکنگ اکاؤنٹ کی تمام شرائط کو پورا کرتے ہیں۔
- سال کے دوران پیش کی جانے والی نئی پروڈکٹس کے چارجز اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کسٹمر دونوں کو فراہم کر دیئے جائیں گے۔